

# Allama Iqbal Open University AIOU matric solved assignment autumn 2024

## Code 210 Garment Making II

### Q.1

ناپ لینے کے لیے کون سی ضروری اشیا درکار ہوتی ہیں نیز نہ لینے کا طریقہ صحیح بیان کریں۔

Ans:

ناپ لینے کے لیے ضروری اشیا

:ناپ لینے کے عمل کو درست اور آسان بنانے کے لیے درج ذیل اشیا درکار ہوتی ہیں

#### 1. ماپنے والی ٹیپ (Measuring Tape)

- یہ سب سے اہم چیز ہے، جس سے جسم کے مختلف حصوں کی لمبائی چوڑائی اور گولائی ناپی جاتی ہے۔
- نرم اور لچکدار ٹیپ استعمال کریں تاکہ جسم کے مطابق صحیح ماپ لیا جا سکے۔

#### 2. کاغذ اور قلم

- ناپ کے اعداد و شمار لکھنے کے لیے ضروری ہیں تاکہ کوئی بھی پیمائش بھولنے کا خدشہ نہ ہو۔

#### 3. نوٹ بک یا پیمائش فارم

- مختلف پیمائشوں کو ترتیب سے محفوظ رکھنے کے لیے فارم یا نوٹ بک استعمال کی جا سکتی ہے۔

#### 4. آئینہ

- ناپ لیتے وقت جسم کی صحیح پوزیشن دیکھنے کے لیے آئینہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔

#### 5. چاک یا پنسل

- کپڑے پر نشان لگانے کے لیے چاک یا پنسل ضروری ہے، خاص طور پر اگر کپڑے پر فوری نشان لگانا ہو۔

#### 6. معاون (Helper)

- اگر ناپ لینے والا شخص خود سے یہ کام نہ کر سکے تو ایک معاون یا ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔

### ناپ لینے کا صحیح طریقہ

ناپ لیتے وقت چند اہم اصولوں اور طریقوں پر عمل کرنا ضروری ہے تاکہ درست پیمائش لی جا سکے:

#### 1. جسم کی سیدھی حالت

- ناپ لیتے وقت فرد کو سیدھا اور آرام دہ حالت میں کھڑا ہونا چاہیے۔
- جسم کو جھکانے یا غلط زاویے پر کھڑے ہونے سے ناپ غلط ہو سکتا ہے۔

#### 2. ٹیپ کو جسم کے قریب رکھیں

- ٹیپ کو جسم کے ساتھ ہلکے انداز میں رکھیں تاکہ یہ نہ زیادہ ڈھیلی ہو اور نہ ہی زیادہ سخت۔
- ٹیپ کا اختتام صفر پر ہونا چاہیے اور پیمائش صحیح نمبر پر ختم کریں۔

#### 3. مختلف جسمانی حصوں کا ناپ لینے کا طریقہ

##### 1. چھاتی (Bust/Chest)

- ٹیپ کو پیٹھ سے لے کر سامنے سینے کے سب سے ابھری ہوئی جگہ پر رکھیں۔
- سانس کو آرام دہ حالت میں رکھیں، نہ زیادہ کھینچیں اور نہ دبائیں۔

## 2. کمر (Waist)

- کمر کے سب سے پتلے حصے پر ٹیپ لگائیں۔
- ناپ لیتے وقت ٹیپ سیدھی اور زمین کے متوازی ہونی چاہیے۔

## 3. کولہے (Hips)

- کولہوں کے سب سے چوڑے حصے کو ناپیں۔
- ٹیپ کو کولہوں کے گرد لپیٹیں اور دیکھیں کہ یہ سیدھی اور متوازن ہے۔

## 4. کندھے (Shoulder)

- ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک کی لمبائی ناپیں۔
- ٹیپ کو بالکل سیدھا رکھیں۔

## 5. آستین (Sleeve)

- کندھے کے جوڑے سے کلائی تک ناپ لیں۔
- بازو کو ہلکا سا موڑیں تاکہ آستین مناسب لمبائی میں بن سکے۔

## 6. لمبائی (Length)

- گلے کے جوڑے سے لے کر مطلوبہ لمبائی (کمر، گھٹنے یا ٹخنے تک) ناپیں۔
- سیدھا کھڑے رہیں تاکہ لمبائی کا ناپ درست ہو۔

## 7. گردن (Neck)

- گردن کے نچلے حصے کا ناپ لیں۔
- ٹیپ کو گردن کے گرد ہلکے انداز میں لپیٹیں، دباؤ نہ ڈالیں۔

## 8. ٹانگوں کا ناپ (Inseam)

- اندرونی ٹانگ کے جوڑے سے لے کر ٹخنے تک ناپ لیں۔
- ٹیپ کو سیدھا رکھیں اور ایک معاون سے مدد لیں۔

---

## ناپ لیتے وقت احتیاطی تدابیر

1. جسم پر اضافی کپڑے نہ پہنیں، تاکہ صحیح ناپ لیا جا سکے۔

2. ٹیپ کا استعمال آرام دہ انداز میں کریں، سختی یا دباؤ سے ناپ غلط ہو سکتا ہے۔
3. ہر ناپ کو فوری طور پر نوٹ کر لیں تاکہ بھولنے کا امکان نہ رہے۔
4. پیمائش لیتے وقت فرد کو سیدھا اور سکون سے کھڑا رکھیں۔

## خلاصہ

ناپ لینے کے لیے ماپنے والی ٹیپ، کاغذ، قلم، اور جسم کے سیدھے زاویے میں کھڑا ہونا ضروری ہے۔ ہر جسمانی حصے کے ناپ کے لیے الگ اصول ہیں جن پر عمل کرنے سے درست پیمائش لی جا سکتی ہے۔ ناپ لینے کا صحیح عمل کپڑوں کے بہتر فٹ اور خوبصورتی کے لیے بہت اہم ہے۔

## Q.2

مناسب گریبان کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے چہرے کی ساخت پر گریبان کی بناوٹ کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟

Ans:

مناسب گریبان کا انتخاب کیسے کیا جاتا ہے؟

کا انتخاب کرتے وقت چہرے کی ساخت، شخصیت، اور لباس کے (Neckline) گریبان موقع کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔ گریبان کا درست انتخاب نہ صرف لباس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے بلکہ چہرے کی دلکشی کو بھی نمایاں کرتا ہے۔ مناسب گریبان کا انتخاب درج ذیل نکات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے:

## 1. چہرے کی ساخت کا خیال

چہرے کی ساخت گریبان کے انتخاب میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ مختلف چہرے کی ساخت کے لیے مختلف گریبان موزوں ہوتے ہیں:

### 1. گول چہرہ

- شکل کے گریبان بہترین (U) یا یو (V) گول چہرے والے افراد کے لیے وی ہیں۔
- یہ چہرے کو لمبا اور پتلا دکھانے میں مددگار ہوتے ہیں۔
- گول یا ہائی نیک گریبان سے گریز کریں کیونکہ یہ چہرے کو اور زیادہ گول دکھا سکتے ہیں۔

### 2. لمبا چہرہ

- لمبے چہرے والے افراد کے لیے گول یا چوڑے گریبان موزوں ہیں۔
- ہائی نیک اور گہرے وی نیک سے پرہیز کریں کیونکہ یہ چہرے کو مزید لمبا دکھاتے ہیں۔

### 3. چوکور چہرہ

- نرم اور گول نیک لائنز، جیسے گول نیک یا سکواپ نیک، چہرے کو متوازن دکھاتی ہیں۔
- سخت زاویوں والے گریبان، جیسے وی نیک، سے گریز کریں کیونکہ یہ چہرے کی زاویائی ساخت کو نمایاں کر سکتے ہیں۔

### 4. دل کی شکل کا چہرہ

- ہلکے اور چوڑے گریبان، جیسے سکواپ یا ہارٹ نیک، بہترین ہیں۔
- زیادہ تنگ یا ہائی نیک گریبان سے پرہیز کریں کیونکہ یہ چہرے کو مزید پتلا اور ماتھے کو نمایاں کر سکتے ہیں۔

### 5. اوول چہرہ

- اوول چہرے والے افراد پر تقریباً ہر قسم کے گریبان خوبصورت لگتے ہیں، خاص طور پر وی نیک اور گول نیک۔

## 2. شخصیت اور لباس کا موقع

- **شخصیت:** اگر آپ ایک رسمی موقع کے لیے لباس پہن رہے ہیں، تو زیادہ بند اور مہذب گریبان، جیسے ہائی نیک یا مینڈارن کالر، مناسب ہیں۔
- **موقع:**
  - روزمرہ کے مواقع کے لیے آرام دہ اور ہلکے گریبان، جیسے یو نیک یا سکواپ نیک، موزوں ہیں۔
  - تقریبات کے لیے دلکش گریبان، جیسے ڈیپ وی نیک یا ہارٹ نیک، بہتر ہیں۔

## 3. جسمانی ساخت کا اثر

- اگر آپ کا دھڑ چھوٹا ہے، تو گہرے اور کھلے گریبان دھڑ کو لمبا دکھاتے ہیں۔
- چوڑے کندھے رکھنے والے افراد کے لیے چوڑے اور گہرے گریبان موزوں ہیں۔
- پتلے افراد کے لیے ہائی نیک گریبان بہتر ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ جسم کو بھرپور دکھاتے ہیں۔

## چہرے کی ساخت پر گریبان کی بناوٹ کے اثرات

گریبان کا چہرے کی ساخت پر براہ راست اثر ہوتا ہے۔ یہ اثرات درج ذیل ہیں:

### 1. چہرے کی لمبائی اور چوڑائی کا توازن

- گول گریبان چہرے کو زیادہ گول یا چوڑا دکھا سکتے ہیں، جبکہ وی نیک چہرے کو لمبا دکھاتا ہے۔
- چوڑے گریبان، جیسے بوٹ نیک، چہرے کو چوڑا دکھا سکتے ہیں، جو پتلے چہرے والے افراد کے لیے اچھا انتخاب ہے۔

### 2. چہرے کی خصوصیات کو نمایاں کرنا

- اگر کسی کا جبڑا چوڑا ہو تو نرم اور گول گریبان اس ساخت کو متوازن کر سکتے ہیں۔
- زیادہ زاویائی گریبان چہرے کی زاویائی ساخت کو نمایاں کرتے ہیں۔

### 3. چہرے کو لمبا یا چھوٹا دکھانے کا اثر

- ڈیپ وی نیک لمبے چہرے کو اور زیادہ لمبا دکھا سکتا ہے۔
- ہائی نیک چہرے کو چھوٹا اور بھرپور دکھاتا ہے، خاص طور پر لمبے چہرے کے لیے۔

### 4. چہرے کی توجہ مرکوز کرنا

- کھلے گریبان چہرے کو نمایاں کرتے ہیں اور نظر کو اوپر کی طرف لے جاتے ہیں۔
- بند گریبان چہرے کے بجائے گردن اور دھڑ پر توجہ مرکوز کرتے ہیں۔

---

### گریبان کے انتخاب کے عمومی اصول

- ہمیشہ اپنی چہرے کی ساخت، شخصیت، اور جسمانی ساخت کے مطابق گریبان کا انتخاب کریں۔
- ایسا گریبان منتخب کریں جو نہ صرف آپ کے لباس کی خوبصورتی بڑھائے بلکہ آپ کو پُر اعتماد بھی محسوس کرائے۔
- تجربہ کرتے رہیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون سا گریبان آپ پر سب سے بہتر لگتا ہے۔

---

### خلاصہ

مناسب گریبان کا انتخاب چہرے کی ساخت، جسمانی ساخت، اور موقع کے مطابق کیا جاتا ہے۔ چہرے کی بناوٹ پر گریبان کا گہرا اثر ہوتا ہے، جو چہرے کو لمبا، چوڑا، یا متوازن دکھا سکتا ہے۔ صحیح انتخاب لباس کی دلکشی بڑھانے کے ساتھ شخصیت کو بھی نمایاں کرتا ہے۔

### Q.3

گول گریبان کو تراشنا اور مکمل کرنے کا طریقہ لکھیں نیز بتائیں کہ ادیب مغزی سے گول گریبان کی سلائی کیسے مکمل کرتے ہیں؟

Ans:

گول گریبان کو تراشنا اور مکمل کرنے کا طریقہ

گول گریبان تراشنے اور مکمل کرنے کے لیے درست پیمائش، تراشنے کی مہارت، اور سلائی کے مناسب طریقے کا استعمال ضروری ہے۔ نیچے مرحلہ وار تفصیل دی گئی ہے:

#### 1. گول گریبان کی تیاری

(الف) پیمائش لینا

1. گلے کے گرد پیمائش کریں اور مطلوبہ چوڑائی اور گہرائی کے مطابق گریبان کا ڈیزائن طے کریں۔
2. گریبان کے سامنے (چہرے کی طرف) کی گہرائی عام طور پر زیادہ ہوتی ہے، جبکہ پیچھے کی گہرائی کم رکھی جاتی ہے۔

(ب) کاغذ پر پیٹرن بنانا

1. کپڑے کے مطابق ایک گول پیٹرن تیار کریں۔
2. گلے کے گرد کی پیمائش کو مدنظر رکھتے ہوئے اسے گولائی دیں۔
3. پیٹرن کو کپڑے پر رکھ کر چاک سے نشان لگائیں۔

(ج) کپڑے کو تراشنا

1. گریبان کے نشان کے مطابق کپڑے کو احتیاط سے کاٹیں۔



گولائی کو درست رکھنے کے لیے کپڑے کو ہموار سطح پر رکھ کر تراشیں۔ 2.

---

## 2. گریبان کو مکمل کرنا

(الف) کناروں کو صاف کرنا:

1. تراشے گئے گریبان کے کناروں کو زیگ زیگ مشین یا اوورلاک مشین سے صاف کریں تاکہ دھاگے نکلنے سے بچ سکیں۔
2. اگر مشین دستیاب نہ ہو تو کناروں کو ہاتھ سے ہیم کریں۔

(ب) (Interfacing) مضبوطی کے لیے معاون کپڑا:

1. گریبان کے لیے ایک چھوٹا سا فیسنگ پیس تیار کریں، جسے "ادیب مغزی" کہتے ہیں۔
2. اسے گریبان کے اندرونی کنارے کے ساتھ سلائی کریں تاکہ گریبان کو مضبوطی اور خوبصورتی ملے۔

(ج) کناروں کو موڑنا:

1. گریبان کے کنارے کو ہلکا سا اندر کی طرف موڑ کر آہنی استری سے سیٹ کریں۔
  2. کنارے پر سلائی کریں تاکہ گریبان صاف اور ہموار نظر آئے۔
- 

## ادیب مغزی کے ساتھ گول گریبان کی سلائی

ادیب مغزی ایک باریک پٹی ہوتی ہے جو گول گریبان کے کنارے پر لگائی جاتی ہے تاکہ گریبان مضبوط اور صاف نظر آئے۔ اس کا استعمال کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے:

(الف) مغزی تیار کرنا:

1. کپڑے کے ایک باریک ٹکڑے کو گولائی کے مطابق کاٹیں۔
2. اسے گریبان کے ساتھ لگانے کے لیے نرم اور لچکدار بنائیں۔
3. مغزی کو گریبان کی گولائی سے 1-2 انچ لمبا رکھیں تاکہ سلائی کے دوران ایڈجسٹ کیا جا سکے۔

(ب) (مغزی کی سلائی کا طریقہ:

1. مغزی کو گریبان کے کنارے کے ساتھ رکھیں، اور دونوں کو چہرے کے رخ سے جوڑیں۔
2. سلائی کرتے وقت مغزی کو گریبان کی گولائی کے ساتھ احتیاط سے فٹ کریں۔
3. سلائی مکمل ہونے کے بعد مغزی کو اندر کی طرف موڑیں تاکہ یہ گریبان کے کنارے کو مکمل طور پر ڈھانپ لے۔

### (ج) مغزی کو ہموار کرنا:

1. استری کی مدد سے مغزی کو سیٹ کریں تاکہ یہ صاف اور گولائی میں ہموار نظر آئے۔
2. اندر کی طرف موڑی گئی مغزی پر ایک اضافی سلائی کریں تاکہ یہ اپنی جگہ پر مضبوطی سے قائم رہے۔

### (د) آخری مراحل:

1. گریبان کو استری کریں تاکہ تمام کنارے ہموار اور صاف نظر آئیں۔
2. کپڑے کے مطابق مغزی کے رنگ اور ساخت کو منتخب کریں تاکہ یہ لباس کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔

---

### خلاصہ

گول گریبان کو تراشنے اور مکمل کرنے کے لیے ناپ کی درستگی، کناروں کی صفائی، اور ادیب مغزی کا صحیح استعمال بہت ضروری ہے۔ مغزی نہ صرف گریبان کو مضبوط بناتی ہے بلکہ اسے صاف اور پیشہ ورانہ انداز بھی دیتی ہے۔ اس عمل کے ذریعے آپ کا گریبان صاف ستھرا، ہموار، اور دلکش نظر آئے گا۔

Q.4

گھیر دار شلوار ترتیب سے سینے کا طریقہ لکھیں۔

Ans:

گھیر دار شلوار ترتیب سے سینے کا طریقہ

گھیر دار شلوار روایتی اور آرام دہ لباس ہے، جسے درست طریقے سے سینا ضروری ہے تاکہ یہ خوبصورت اور آرام دہ ہو۔ نیچے مرحلہ وار طریقہ تفصیل سے دیا گیا ہے:

1. پیمائش لینا

شلوار تیار کرنے سے پہلے درست پیمائش ضروری ہے۔ درج ذیل پیمائش لیں:

1. کمر کا گھیرا
2. گھٹنے تک کی لمبائی
3. ٹخنے تک کی لمبائی
4. شلوار کا گھیرا (شلوار کی چوڑائی)
5. پاٹ کا گھیرا (ٹخنوں کے قریب)
6. بیلٹ کی چوڑائی (کمر پر ڈالنے کے لیے)

2. کپڑا کاٹنا

(الف) شلوار کا گھیرا

1. شلوار کے لیے کپڑے کو سیدھی سطح پر پھیلائیں۔

2. شلوار کے گھیر اور لمبائی کے حساب سے کپڑا کاٹیں۔
3. سامنے اور پچھلے حصے کے لیے علیحدہ علیحدہ حصے کاٹیں۔

### ب (پاٹ اور بیلت)

1. پاٹ کے لیے ٹخنے کی چوڑائی اور لمبائی کے حساب سے دو مستطیل ٹکڑے کاٹیں۔
2. بیلت کے لیے کمر کی چوڑائی اور 4-5 انچ لمبائی کا ایک ٹکڑا کاٹیں۔

### 3. سلائی کا عمل

#### الف (شلوار کے گھیر کی سلائی)

1. شلوار کے دونوں حصوں (سامنے اور پیچھے) کو ایک ساتھ رکھیں، ان کا دایاں رخ اندر ہو۔ (Right Side)
2. کو ایک ساتھ جوڑ کر سلائی کریں۔ (Inner Seam) اندرونی سیون
3. گھیر کو ہموار اور یکساں رکھنے کے لیے کپڑے کو سمیٹتے وقت احتیاط کریں۔

#### ب (پاٹ کی سلائی)

1. پاٹ کے دونوں حصوں کو جوڑ کر سلائی کریں تاکہ ایک گولائی بن جائے۔
2. اس گولائی کو شلوار کے نیچے کے حصے سے جوڑیں اور سلائی کریں۔
3. پاٹ کو ہموار اور مضبوط رکھنے کے لیے ڈبل سلائی کریں۔

#### ج (بیلت لگانا)

1. بیلت کے ٹکڑے کو شلوار کے اوپری کنارے پر لگائیں۔
2. بیلت کو شلوار کی کمر کے ساتھ جوڑ کر سلائی کریں۔
3. بیلت میں ایک طرف سے اتنا راستہ چھوڑیں کہ ڈوری یا لاسٹک ڈال سکیں۔

#### د (لاسٹک یا ڈوری ڈالنا)

1. اگر بیلت میں لاسٹک استعمال کر رہے ہیں تو اس کے سائز کے مطابق کاٹ کر بیلت میں ڈالیں۔
2. ڈوری کے لیے بیلت کے ایک طرف سوراخ چھوڑیں اور ڈوری ڈالیں۔

---

#### 4. ہیم اور کنارے کی صفائی

1. شلوار کے نیچے اور بیلٹ کے کناروں کو زیگ زیگ یا اوورلاک مشین سے صاف کریں تاکہ دھاگے نکلنے سے بچ سکیں۔
2. ہیم کے کنارے کو اندر کی طرف موڑ کر صاف سلائی کریں۔

---

#### 5. آخری مراحل

1. مکمل شلوار کو استری کریں تاکہ تمام سلائیاں ہموار ہوں۔
2. شلوار کو پہن کر چیک کریں کہ کمر، گھیر، اور پاٹ کی سلائی آرام دہ اور درست ہیں۔

---

#### اہم نکات

1. گھیر کی یکسانیت: گھیر کو برابر رکھنے کے لیے کپڑے کو تراشتے وقت اور سلائی کرتے وقت احتیاط کریں۔
2. مضبوط سلائی: تمام جوڑ اور پاٹ پر مضبوط سلائی کریں تاکہ شلوار پائیدار ہو۔
3. بیلٹ کی جگہ: بیلٹ کو اتنا کھلا رکھیں کہ آسانی سے لاسٹک یا ڈوری ڈال سکیں۔

---

#### خلاصہ

گھیر دار شلوار کو ترتیب سے سینے کے لیے پیمائش، کپڑا کاٹنے، اور سلائی کا مناسب عمل ضروری ہے۔ ہر مرحلے میں درستگی اور احتیاط سے کام کریں تاکہ شلوار آرام دہ اور خوبصورت تیار ہو۔

## Q.5

بچوں کا لباس منتخب کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے نیز بچوں کے جھبلے کا پیٹرن بنانے کا طریقہ تحریر کریں۔

Ans:

بچوں کا لباس منتخب کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟

بچوں کے لباس کا انتخاب کرتے وقت کئی اہم باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ان کا لباس آرام دہ، محفوظ اور مناسب ہو۔ یہاں کچھ اہم نکات دی جا رہی ہیں جو بچوں کا لباس منتخب کرتے وقت مدنظر رکھی جانی چاہئیں:

### 1. کپڑے کا مواد

- بچوں کے لباس کے لیے نرم اور ہلکا کپڑا منتخب کریں جو جلد کے لیے محفوظ ہو۔
- بہترین آپشن ہیں کیونکہ (Organic Fabrics) کاٹن (چاندی کا کپڑا) اور کھالین۔ یہ جلد کے لیے نرم اور ہوا دار ہوتے ہیں۔
- مصنوعی مواد جیسے پولی ایسٹر سے پرہیز کریں کیونکہ یہ جلد کو خارش یا الرجی کا باعث بن سکتے ہیں۔

### 2. سائز کا انتخاب

- بچوں کے لیے لباس ہمیشہ ان کے سائز کے مطابق منتخب کریں، کیونکہ زیادہ تنگ یا زیادہ ڈھیلا لباس آرام دہ نہیں ہوتا۔
- لباس کو ایسے سائز میں منتخب کریں جس سے بچہ آزادانہ حرکت کر سکے اور کھیلنے کے دوران کوئی تکلیف نہ ہو۔

### 3. رنگ اور ڈیزائن

- بچوں کے لباس کے لیے خوش رنگ اور دلکش ڈیزائن منتخب کریں تاکہ وہ دلکش اور خوشگوار لگیں۔
- کم عمر بچوں کے لیے زیادہ پیچیدہ یا تیز رنگوں سے پرہیز کریں، بہتر ہے کہ ہلکے اور نرم رنگ منتخب کیے جائیں۔

### 4. آسانی سے پہننے والا

- لباس منتخب کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ اسے بچے خود بھی آرام سے پہن اور اتار سکیں۔
- زیپر یا بٹن والے لباس میں بچوں کے لیے سادہ اور کم پیچیدہ بندھن استعمال کریں تاکہ وہ پریشان نہ ہوں۔

### 5. موسم کے مطابق لباس

- موسم کے مطابق لباس کا انتخاب کریں، جیسے گرمیوں میں ہلکے کپڑے اور سردیوں میں گرم اور موٹے کپڑے۔
- موسم کی مناسبت سے بچوں کے لباس میں ہوا کی گزرگاہ اور موٹائی کو بھی دیکھنا ضروری ہے۔

### 6. حفاظتی پہلو

- بچوں کے لباس میں کسی قسم کے تیز بٹن، کھچاؤ والے دھاگے، یا چھوٹے حصے نہ ہوں جو بچے کے لیے خطرناک ہو سکتے ہوں۔
- کپڑوں میں جیبیں، چمچوں یا دھاگوں کے لوپ سے بچیں کیونکہ یہ بچے کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔

### 7. صفائی اور دیکھ بھال

- بچوں کے لباس کو آسانی سے دھو اور صاف کیا جا سکے، اس بات کا خیال رکھیں۔
- لباس کے لیبل پر صاف کرنے کی ہدایات پڑھ کر یہ دیکھیں کہ وہ کپڑے آپ کے گھر میں دستیاب صفائی کے طریقوں سے میل کھاتے ہوں۔

## بچوں کے جھبلے کا پیٹرن بنانے کا طریقہ

کا پیٹرن بنانا ایک آسان عمل ہو سکتا ہے اگر آپ کو سلائی (Onesie) بچوں کے جھبلے کی بنیادی مہارتیں معلوم ہوں۔ جھبلہ عام طور پر ایک مکمل لباس ہوتا ہے جو بچوں کے لیے آرام دہ اور پورے جسم کو ڈھانپنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ اس کا پیٹرن بنانے کے طریقے کو نیچے تفصیل سے بیان کیا گیا ہے:

### 1. پیمائش لینا

بچوں کے جھبلے کا پیٹرن بنانے سے پہلے آپ کو ان کی پیمائش لینے کی ضرورت ہوتی ہے:

- گردن کا گھیرا
- سینے کا گھیرا
- کمر کا گھیرا
- ہپ (کولہے) کا گھیرا
- گھٹنے سے ٹخنے تک کی لمبائی
- کمر سے گردن تک کی لمبائی
- ہاتھوں کی لمبائی (آستین کے لیے)

### 2. پیٹرن کی تیاری

#### 1. کاغذ پر پیٹرن بنانا:

- بچوں کے جسم کے مطابق ایک پیٹرن بنائیں۔ اس کے لیے کاغذ پر سیدھے زاویے میں ایک مستطیل بنائیں جو بچے کے جسم کے ناپ سے تھوڑا زیادہ ہو۔
- پیٹرن کے دونوں طرف سینے اور کولہے کے حساب سے گھیرا بڑھائیں۔
- پیٹرن کی پچھلے اور سامنے کے حصے کے لیے الگ الگ پیٹرن بنائیں تاکہ آپ کو جھبلہ کے دونوں حصے کا پتہ چل سکے۔

#### 2. آستین کا پیٹرن:



- آستین کے لیے ایک الگ مستطیل پیٹرن بنائیں جو ہاتھ کے گھیرا اور لمبائی کے مطابق ہو۔
- آستین کے نیچے کی طرف ہلکی سی گولائی رکھیں تاکہ یہ ہاتھوں کے لیے آرام دہ ہو۔

### 3. کپڑا کاٹنا

- پیٹرن کو کپڑے پر رکھیں اور چاک سے نشان لگائیں۔
- پیٹرن کے مطابق دونوں حصوں (سامنے اور پیچھے) کے علاوہ آستین کے ٹکڑے بھی کاٹ لیں۔
- یاد رکھیں کہ ہر طرف کم از کم 1 انچ اضافی کپڑا چھوڑیں تاکہ سیون (جوڑ) کے لیے جگہ مل سکے۔

### 4. سلائی کا عمل

1. سامنے اور پیچھے کا جوڑ:
  - پہلے پیچھے اور سامنے کے حصوں کو جوڑیں، پھر ان کے گرد سیون (جوڑ) کی سلائی کریں۔
2. آستین کی سلائی:
  - آستین کے ٹکڑوں کو جوڑ کر ان کی سیون کریں اور پھر انہیں جھبلہ کے کندھوں پر سلائی کریں۔
3. ہپس اور ٹخنوں کی سیون:
  - کپڑے کے نیچے کے حصوں (ہپس اور ٹخنوں) کو جوڑ کر سیون کریں۔

### 5. بیلٹ اور بٹن کی سلائی

- جھبلے کے سامنے کے حصے میں بٹن یا زیپر کے لیے جگہ چھوڑیں تاکہ یہ کھل سکے۔
- بٹن کی جگہ کو نشان لگا کر انہیں سیو کریں تاکہ جھبلہ آسانی سے کھولنے اور پہننے میں آئے۔

---

## 6. آخری صفائی اور استری

- جھبلہ کو مکمل سلائی کے بعد اچھی طرح استری کریں تاکہ یہ ہموار اور صاف نظر آئے۔
- سیون اور کناروں کو ہموار اور مضبوط بنانے کے لیے اوورلاک مشین یا زیگ زیگ سلائی کا استعمال کریں۔

---

## خلاصہ

بچوں کا لباس منتخب کرتے وقت ان کی راحت، حفاظتی پہلو، اور کپڑے کے معیار کو اہمیت دینی چاہیے۔ بچوں کے جھبلے کا پیٹرن بنانے میں درست پیمائش، کپڑے کا انتخاب، اور سیون کی درست تکنیکوں کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ جھبلہ آرام دہ اور خوبصورت ہو۔